

محمّد صلی اللہ علیہ وسلم

مخاردو ترجمہ

منزل محمد جمیل رضا

مکتبہ کنز الایمان بہاری کالونی
بہاولپور

ہدیہ 3 روپے

۵ سلام رضا

مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام
شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام

پہر چرخ نبوت پہ روشن درود؟
گئے باخبر رسالت پہ لاکھوں سلام

شہر یارم تا حیدر حرم
نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام
ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود؟

ہم غریبوں کے ثروت پہ لاکھوں سلام
جسے عرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا

اسے نگاہ عنایت پر لاکھوں سلام
وہ دعا جسے کاجو بنے بہار قبول

اسے نسیم اجابت پر لاکھوں سلام
ہیں کو بار دو عالم کے پرواہ نہیں

ایسے بازو کے قوت پہ لاکھوں سلام
کلی جیسے بلکہ اور جو کہ ردفے تدا

اسے تلو کے قناعت پہ رکھوں سلام
مجھ سے خدمت کے قدی ہمیں ہاں رضا

مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام

تاریخ اشاعت
اکتوبر ۱۹۹۹ء

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ نہایت رحمت والے ہے حمد و تمغہ فرمائے والے کے نام سے

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا

بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمت والے رسول تشریف لائے

عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمِ

اُن پر سخت گراں ہے تمہارا مشفق میں بڑا نہایت پابندے والے میں تمہاری مصلحت کو ایمان والوں پر

قَاتٍ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

نہایت گراں بردار ہے حمد و تمغہ فرمائے والے میں۔ پھر اگر وہ رو کر تانی کہوں تو آپ فرمائیے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی اور نہیں

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ نہایت رحمت والے ہے حمد و تمغہ فرمائے والے کے نام سے

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ

آپ فرمائیے وہ اللہ ہے بیکنا۔ اللہ بے نیاز ہے (بے بائی کے محتاج میں اور نہ کسی کا محتاج نہیں)۔ اکیلا کوئی

يُولَدُ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (آئین بار)

اولاد نہیں اور وہ کسی کی اولاد نہیں۔ اور اس کا کوئی ہمسر نہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ نہایت رحمت والے ہے حمد و تمغہ فرمائے والے کے نام سے

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ

آپ فرمائیں میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کے شر سے اور

شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي

اندھیری رات کے شر سے جب وہ بچھا جائے اور اگر ہوں میں (جادو کی) بہت چھوٹک ماننے

الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

والی عورتوں کے شر سے اور حسد کر نیوالے کے شر سے جب وہ حسد کرے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ نہایت رحمت والے ہے حمد و تمغہ فرمائے والے کے نام سے

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ

آپ فرمائیں میں پناہ لیتا ہوں سب لوگوں کے رب کی تمام لوگوں کے بادشاہ کی سب لوگوں

النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝

کے سپرد کی دوسرے ڈولنے والے۔ چھپے ہوئے چھپ جانے والے کے شر سے

الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ

جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالت ہے جنوں

الْبُحْتَةِ وَالنَّاسِ ۝

اور آدمیوں میں سے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ نہایت رحمت والے ہے حدیث فرماتے والے کے نام سے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

سب تعریفیں اللہ ہی کے لینے ہیں جو پروردگار ہے سب جہانوں کا نہایت رحمت والا ہے حدیث فرماتے والا

مَلِكٍ يُؤْتِي الدِّينَ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ

ملک روزِ حسنا کا (لے اللہ ہمیں تو فیق لے کہ) تم ہی کو ہی بندگی کریں اور تم ہی

نَسْتَعِينُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ

سے مدد چاہیں (ہمیشہ) ہمیں سیدھی راہ چلا ان لوگوں

الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کی جن پر تیرا غضب ہوا

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ آمین

اور نہ گمراہوں کی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ نہایت رحمت والے ہے حدیث فرماتے والے کے نام سے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

سب تعریفیں اللہ ہی کے لینے ہیں جو پروردگار ہے سب جہانوں کا نہایت رحمت والا ہے حدیث فرماتے والا

مَلِكٍ يُؤْتِي الدِّينَ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ

ملک روزِ حسنا کا (لے اللہ ہمیں تو فیق لے کہ) تم ہی کو ہی بندگی کریں اور تم ہی

بِقِيَمَتِ الصَّلَاةِ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَ

سزا قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہمیں سے (کھاری رو میں) خرچ کرتے ہیں

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا

اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو

أُنزِلَ مِنْ قِبَلِكَ ۝ وَالْآخِرَةُ لَهُمْ يُوقِنُونَ ۝

آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ

وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی صلاح

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّن

پانے والے ہیں بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں

الْمُحْسِنِينَ ۝ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ

سے جنت میں ان کی دعا ہے لے اللہ تیرے لینے پاکی ہے اور

تَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝ وَأَجْرُهُمْ فِيهَا هُمْ وَأَن

دوں ان کی باہمی دعا ہے خیر سلام ہے اور انہیں تیرے تعریفیں پر ان کی دعا

اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

حسن ہو گی اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو (لے محبوب)

لِلْعَالَمِينَ ۝ مَا كَانَ لِحَمْدِ آبَا أَحَدٍ مِّن

عزت والے جہانوں کے لئے نہیں ہیں جو تمہارے خودوں میں سے کسی کے باپ

رَّجَائِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ط

لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ إِنَّ اللَّهَ

اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے بے شک اللہ

وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر اے ایمان والو! تم ان پر

آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ اللَّهُمَّ

درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو اے الہی! ہمارے

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَالِيهِ

آقا و مولیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر رحمت نازل فرما اور ہمارے

إِل سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَ

آقا و مولیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمل بر رحمت، برکت

صَلِّ عَلَيْهِ ۝ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا

اور سلامتی بھیج پاک ہے آپ کا رب عزت والا رب ہر اس چیز سے

يَصِفُونَ ۝ وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ

جو وہ بیان کرتے ہیں اور سلام ہو پیغمبروں پر اور سب فرشتوں

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ

اللہ ہی کے لئے ہیں جو سب جہانوں کا رب اللہ سب سے بڑا ہے اللہ

أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ۝ اللَّهُ

سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اللہ

أَكْبَرُ وَبِاللَّهِ الْحَمْدُ

سب سے بڑا ہے اور تمام خوبیاں اللہ کیلئے ہیں

دُعَا

یا اللہ! جو کلیم پاک میں نے پڑھا ہے اور جو اس محفل میں پڑھا گیا اور جو میرے لبت کی گویا اسی طرح جو درود پاک پڑھا گیا، غرضیکہ جو کلمات طہات پہلے باب پڑھے یا سنے گئے ان کے پڑھنے میں سہوا یا عمدتاً غلطیاں یا غامیساں پیدا ہو گئیں ہوں تو ان کو معاف فرما اور ان کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما اور اپنے محبوب ہمارے آقا و مولیٰ سید المرسلین، شفیع المدینین، رحمۃ اللعالمین کے طفیل اپنی بارگاہ ایزدی میں قبول و منظور فرما اور اپنے فضل و کرم سے اس کے پڑھنے اور جس چیز کا بھی ایصال ثواب کے لئے اہتمام کیا گیا اس پر اجر و ثواب عطا فرما کہ ہماری طرف سے یہ تحفہ اپنے محبوب نبی کریم زخوف اللہ شمیم کہ پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، اہل بیت و جملہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین و آئمہ طریقت اور جمیع ارباب صدیقین، شہداء و صالحین، اولیائے کرام، موقوفائے عظام، مجاہدین، مومنان، مسلمین، مسلمات، غرضیکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اہمیت کو ثواب پہنچا، مخصوص بالخصوص بالخصوص..... (فلاں) کی روح کو اس کا ثواب پہنچے۔ یا اللہ ان کی قبر کو سنو فرما، ان کی قبر کو تادم نظر وسیع فرما، ان کی قبر کو باغ و بہار بنا، ان کی قبر پر خصوصی رحمت کا نزول فرما، ان کی صفحہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کی غیر فرما یا اللہ ہم سب کا ثواب بالآخر فرماتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرماتا۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ آمین۔

خدا یا جنی فاطمہ کہ بر قول ایسا کنی خاتمہ
گرد عوتم زد کنی در قبول من و دست و امان آل رسول

وَعَلَى اللَّهِ تَعَالَى عِلِّيَّةً عَزِيزَةً خَلْقَهُ وَوَدَّعَهُ شَيْهَةً وَرَبَّنَا قَدْ فَدَيْتَهُ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط